

PRESS RELEASE

For immediate release

April 19, 2022

SECP Regulatory Sandbox fuels regulatory reforms in financial services

ISLAMABAD, April 28: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) has published a position paper that shared experiences and learnings from its Regulatory Sandbox project for the benefit of potential participants of the third cohort of Sandbox. The paper also encapsulates the journey of the first cohort participants and details of their testing methodology, performance and learning outcomes.

The Regulatory Sandbox – now successfully entering its third edition – is a tailored regulatory environment that allows entities to conduct limited scale live tests of innovative products, services, processes, and business models in a controlled regulatory environment.

It sheds light on how the results of the first cohort fueled regulatory reforms to facilitate entry of newly tested products and solutions in the financial services market, especially in P2P lending, equity crowdfunding, digital distribution of mutual funds, and digital only insurance. It also lists down the products currently under testing in the second cohort that include parametric insurance, fractionalization of real assets, Digital Identity/AML/KYC, Central KYC for Mutual Funds and women focused Mutual Funds distribution platform among others.

Considering the encouraging outcomes and feedback of the first two cohorts, SECP has announced the commencement of the third cohort. The application deadline for the third cohort is May 31, 2022. Broad focus for this cohort would include products, solutions or business models that pave the way for financial inclusion, gender equity, efficiency and market depth through use of new or existing technology, or otherwise.

Complete applications with all the requisite information can be emailed to: sandbox@secp.gov.pk. Any queries or questions with respect to the application process can be emailed to: sandbox@secp.gov.pk.

The Position Paper on Regulatory Sandbox is available at SECP's website and can be accessed at <https://www.secp.gov.pk/document/secps-concept-paper-on-regulatory-sandbox/?wpdmdl=44490&refresh=626a762adcb9d1651144234>

ایس ای سی پی کے ریگولیٹری سینڈ باکس سے مالیاتی شعبے میں ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ حاصل ہوا

اسلام آباد، 28 اپریل: سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان (ایس ای سی پی) نے اپنے ریگولیٹری سینڈ باکس پروجیکٹ سے حاصل تجربات اور نتائج پہ ایک پوزیشن پیپر جاری کیا ہے۔ اس پیپر کا مقصد سینڈ باکس کے تیسرے مرحلے کے شرکاء کو ریگولیٹری سینڈ باکس کے پہلے دو مرحلوں میں کامیاب ہونے والی کمپنیوں کے تجربات سے مستفید کرنا ہے۔

ایس ای سی پی کا ریگولیٹری سینڈ باکس جو کہ اب اپنے تیسرے ایڈیشن کی طرف گامزن ہے، کمپنیوں اور سٹارٹ اپز کو ایک موزوں اور کنٹرول ریگولیٹری ماحول فراہم کرتا ہے جس میں جدید مالیاتی مصنوعات، خدمات، طریقہ کار اور کاروباری ماڈلز کے محدود پیمانے پر لائیو ٹیسٹ کیا جاسکتا ہے۔

پوزیشن پیپر میں ریگولیٹری سینڈ باکس کے پہلے گروپ کے نتائج نے مالیاتی خدمات کی مارکیٹ میں نئی مالیاتی مصنوعات کو متعارف کروانے کے لئے ریگولیٹری اصلاحات کو آسان بنایا، جن میں خاص طور پر P2P قرض، ایکویٹی کراؤڈ فنڈنگ، میوچل فنڈز کی ڈیجیٹل تقسیم، اور ڈیجیٹل آئی انشورنس کے بزنس ماڈل شامل ہیں۔ پوزیشن پیپر میں سینڈ باکس کے دوسرے گروپ میں زیر غور پروڈکٹس کی فہرست بھی شامل ہے جس میں پیرامیٹرک انشورنس، ریسک ایسیٹس کی فرکشلزیشن، ڈیجیٹل شناخت AML/KYC، سنٹرل KYC برائے میوچل فنڈز اور خواتین کے لیے مخصوص میوچل فنڈز شامل ہیں۔

سینڈ باکس کے پہلے دو گروپوں کے حوصلہ افزا نتائج کو مد نظر رکھتے ہوئے، ایس ای سی پی نے حال ہی میں تیسرے مرحلے کا اعلان کیا ہے۔ تیسرے گروپ کے لیے درخواست جمع کروانے کی آخری تاریخ 31 مئی 2022 ہے۔ اس گروپ کی مخصوص توجہ ایسی مصنوعات، یا کاروباری ماڈل پر ہوگی جو نئی یا موجودہ ٹیکنالوجی کے استعمال کے ذریعے مالیاتی شمولیت، صنفی مساوات، صنعتی کارکردگی اور مارکیٹ کی توسیع کے لیے راہ ہموار کرتے ہیں۔ سینڈ باکس سے مطعلق مکمل درخواستیں یا درخواست کے حوالے سے کوئی بھی سوالات sandbox@secp.gov.pk پر ای میل کیے جاسکتے ہیں۔